



گورنر KATHY HOCHUL

فوری ریلیز کے لیے: 15/2/2023

گورنر HOCHUL نے اعلیٰ معیار کی نگہداشتِ صحت تک رسائی کو مستحکم بنانے کے لیے \$658 ملین کا اعلان کیا ہے

ریاست بھر میں نگہداشتِ صحت کی سہولت گاہ کے تبدیلی پروگرام سے 127 پروجیکٹس اور اقدامات کے لیے فنڈ فراہم کیے جائیں گے

یہ گرانٹس پوری ریاست نیویارک میں نگہداشتِ صحت کی لازمی خدمات کی معاونت کریں گی

گورنر Kathy Hochul نے آج 127 پروجیکٹس کی حمایت کے لیے \$658 ملین سے زائد ریاستی فنڈنگ کا اعلان کیا ہے جس کی مدد سے ریاست نیویارک کے نگہداشتِ صحت کی فراہمی کے نظام کی حفاظت اور تبدیلی انجام دی جائے گی۔ ریاستی محکمہ صحت اور ریاست نیویارک کی اقامتی اتھارٹی کے زیر انتظام، ریاست بھر میں نگہداشتِ صحت کی سہولت گاہ کا تبدیلی پروگرام، مریضوں کی نگہداشت کو بہتر بنانے میں مدد کرے گا جس میں داخل مریضوں، بنیادی نگہداشت، ذہنی صحت، منشیات کے استعمال کے عارضے کے حوالے سے خدمت انجام دینے کے لیے اعلیٰ معیار کی سہولیات اور ریاست بھر میں کمیونٹیز کی طویل مدتی نگہداشت کی ضروریات کی معاونت کی جائے گی۔

"نیویارک کے شہریوں کو معیاری نگہداشتِ صحت اور ایک مضبوط، مستحکم اور مساوی نگہداشتِ صحت کے نظام تک رسائی کا حق حاصل ہے،" گورنر Hochul نے کہا۔ "ان گرانٹس سے ہماری پوری ریاست کے ہسپتالوں اور دیگر سہولیات میں بہتری لانے کے لیے اہم فنڈنگ میسر آئے گی تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ وہ نیویارک کے شہریوں کو اعلیٰ درجے کی نگہداشت فراہم کریں گی۔"

یہ تفویضات ریاست بھر میں 127 پروجیکٹس کی مدد کریں گی۔ خطے کے لحاظ سے منصوبوں کی [ایک فہرست اور تفصیل](#) ملاحظہ کریں۔

فانم مقام ریاستی کمشنر برائے صحت James McDonald نے کہا، "یہ فنڈز ہمارے نگہداشتِ صحت کے فراہم کنندگان اور سہولیات کے لیے ممکن بنائیں گے کہ نگہداشتِ صحت کی خدمات کو مزید جدید ترین اور مربوط خطوط پر استوار کیا جائے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ نیویارک کے شہریوں کو اس طبی نگہداشت تک رسائی حاصل ہو جس کی انہیں آج ابھی اور آنے والی نسلوں تک ضرورت ہے۔ نیویارک اولین درجے کی نگہداشتِ صحت فراہم کرنے میں ایک قومی رہنما کا مقام رکھتا ہے جس کے لیے گورنر Hochul کا بے حد شکریہ جن کی اس لگن کی بدولت ممکن ہوا کہ وہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے رہیں کہ نیویارک کے تمام شہریوں کو بہترین ممکنہ نگہداشت فراہم کرنے کی خاطر نگہداشتِ صحت کے ہمارے نظام کے پاس تمام ضروری وسائل موجود ہوں۔"

ریاست بھر میں نگہداشتِ صحت کی سہولت گاہ کے تبدیلی پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ نگہداشتِ صحت کے اخراجات کو کم کیا جائے اور نیویارک کے شہریوں کی صحت کے نتائج کو بہتر بنانے کی کوششوں میں معاونت کی جائے تاکہ علاقائی طور پر نگہداشتِ صحت کی مربوط فراہمی کے نظام کے حصے کے طور پر، داخل مریضوں، بنیادی، تدارکی اور دیگر ایمبولیٹری نگہداشت کی خدمات تک رسائی کو بڑھایا جا سکے۔ ان تفویضات سے ان پروجیکٹس پر

بھی توجہ مرکوز کی گئی ہے جو صرف حفاظتی نگہداشتِ صحت کے فراہم کنندگان کی مالی استحکام کو یقینی بنانے اور نگہداشتِ صحت کی ضروری خدمات کے تحفظ یا توسیع کو یقینی بنانے میں مدد کریں گے۔

آج اعلان کردہ فنڈنگ، ریاست بھر میں نگہداشتِ صحت کی سہولت گاہ کے تبدیلی پروگرام III کے دوسرے مرحلے اور ریاست بھر میں نگہداشتِ صحت کی سہولت گاہ کے تبدیلی پروگرام IV کے پہلے مرحلے کے تحت دی گئی ہے۔ مجموعی طور پر، ریاست نیویارک نے اس پروگرام کے ذریعے کل فنڈنگ میں تقریباً \$1.68 بلین دیے ہیں۔

ریاست بھر میں، ریاست کی جانب سے IV کے اضافی مراحل کے ذریعے اضافی \$1.15 بلین دیے جائیں گے۔ مزید برآں، گورنر Hochul کے FY 2024 کے انتظامی بجٹ میں ریاست بھر میں V کے قیام کے لیے \$1 بلین اضافی فنڈنگ شامل ہے۔

###

اضافی خبر یہاں ملاحظہ کی جا سکتی ہے www.governor.ny.gov
ریاست نیو یارک | ایگزیکٹو چیمبر | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418